

کل وقتی کنڈرگارٹن

والدین کے لئے رہنمائے سوال و جواب

آپ کے بچے اور آپ کے لئے - کل وقتی کنڈرگارٹن کی شروعات ایک ولولہ انگیز نیا قدم ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور آپ کے بچے کی مدد کیسے کرے گا۔

کل وقتی کنڈرگارٹن کیا ہے؟

اونٹاریو چار اور پانچ سال کے بچوں کے لئے کل وقتی کنڈرگارٹن کی پیش کش ایک ایسے دن کے ساتھ شروع کر رہا ہے جس میں درج ذیل شامل ہیں:

- اسکول کے باقاعدہ دن کے دوران کھیل کے ذریعہ پڑھائی میں مصروف رکھنے والا تعلیمی پروگرام
- اسکول کے پہلے اور اسکول کے بعد باقاعدہ دن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بنائے گئے پروگرام۔ یہ اختیاری ہیں اور مناسب نرخوں پر والدین کو ان کی پیشکش کی جاتی ہے۔ مراعات ان فیملیز کے لئے دستیاب ہوں گی جو اہل قرار پائیں گی۔ اسکول کے اوقات کار سے پہلے اور بعد کے پروگرامز کی پیشکش والد یا والدہ کے طلب کرنے پر ہی کی جائے گی۔

میرا بچہ کیسے مستفید ہوگا؟

کنڈرگارٹن کے موجودہ پروگراموں کی طرح، چار اور پانچ سال کے بچوں کے لئے کل وقتی کنڈرگارٹن اختیاری ہے۔ لیکن تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل وقتی کنڈرگارٹن کی طرح - جو بچے کل وقتی ابتدائی تعلیمی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں - وہ زندگی میں ایک زیادہ مضبوط شروعات حاصل کرتے ہیں۔ کل وقتی کنڈرگارٹن میں، آپ کا بچہ درج ذیل سے مستفید ہوگا:

• اسکول میں زیادہ مضبوط شروعات

بچپن میں کل وقتی تعلیم آپ کے بچے کو پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کی مہارتوں میں بہتری لانے میں مدد کرسکتی ہے اور مستقبل کی تعلیم کے لئے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لئے گریڈ 1 میں جانے کو بھی آسان تر بناتا ہے۔ جب اسکول کا آغاز ایک پرلطف تجربہ ہوتا ہے، تو بچوں میں سیکھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اسکولی تجربے کا حصہ بننے کے آرزومند ہوں گے۔



• ہم جماعتوں کے ساتھ زیادہ وقت

عمومی تعلیمی دن کے دوران، آپ کے بچے کو دیگر بچوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے فائدہ ہوگا اور آئندہ کامیابی کے لئے ضروری تعلیمی اور معاشرتی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی۔ اسکول کے اوقات کار سے پہلے اور بعد کے پروگراموں سے آپ کے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ ایک مانوس ماحول میں زیادہ وقت بھی ملے گا۔

• ایک نتیجہ خیز اور مکمل دن

آپ کا بچہ، مختلف مقامات پر ادھر ادھر گھومنے کے بجائے، بدستور مانوس ماحول میں عملے اور دوستوں کے ساتھ رہے گا۔

میرے بچے کی حصول تعلیم میں کون مدد کرے گا؟

اساتذہ اور اوائل بچپن کے معلمین تعلیمی دن کے دوران آپ کے بچے کی سیکھنے میں مدد کرنے کی غرض سے مل کر کام کریں گے۔ وہ ایک احتیاط کے ساتھ تیار کردہ پروگرام پر عمل درآمد کریں گے جو چیلنج سے بھرپور ہے اور ہر بچے کی ترقی کے درجے کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کے بچے کو اُن اعزازی صلاحیتوں اور تجربوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اوائل بچپن کے معلمین اور اساتذہ اس پروگرام میں لاتے ہیں۔ پورے تعلیمی دن کے لئے کلاس روم میں دو مستند ماہرین کے ہمراہ، آپ کے بچے کو نسبتاً زیادہ انفرادی توجہ اور تعلیمی مواقع ملیں گے۔

باقاعدہ اسکول کے دن کے دوران میرا بچہ کیا سیکھے گا اور کن کاموں کو انجام دے گا؟

آپ کا بچہ کئی طرح کی ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوگا جنہیں نوجوان مُتعلّمین کے تفصیلی جائزہ لینے، دریافت کرنے اور پروان چڑھنے میں مدد کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہوگا۔

تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لئے کھیل اور تعلیم کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے، خاص طور پر سوالوں کو حل کرنے، زبان اور عددی مہارتوں، اور سماجی، جسمانی اور جذباتی مہارتوں کے میدان میں۔ آپ کا بچہ استاد اور اوائل بچپن کے معلم کی رہنمائی میں، ایک طبع زاد کھیل، نیز کھیل کے ذریعہ زیادہ سیکھنے کے لئے تیار کردہ کھیل میں حصہ لے گا۔ یہ سرگرمیاں آپ کے بچے کو تخلیقی انداز سے سوچنے، تحقیق اور تفتیش کرنے، سوالوں کو حل کرنے اور دوسروں کے ساتھ تبادلہ علم و ہنر میں مدد کرے گی۔

کل وقتی کنڈرگارٹن کی جماعتوں میں اساتذہ اور اوائل بچپن کے معلمین کی رہنمائی ایک نئے نصابی دستاویز کے ذریعہ کی جائے گی جس کو سماجی، جذباتی، تعلیمی اور جسمانی مہارتوں کو پروان چڑھانے میں آپ کے بچے کی مدد کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جو اسکول میں اور پوری زندگی میں کامیابی کے لئے ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔



کھیل کے ذریعہ سیکھنے کی مثالیں

تحقیق اور تفتیش:

بہت سے بچے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں واٹر سنٹر میں لاتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی کشتی کو پانی میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد کشتی میں ایک وقت میں ایک شیل ڈالتا ہے۔ دوسرا بچہ ایک سادہ سی حساب کی پنی پر شیلوں کی تعداد کا حساب رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ استاد اور اوائل بچپن کے معلمین بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ڈوبنے سے پہلے کس کشتی میں شیلوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور اس پر غور کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کشتی دوسری کشتیوں سے کیسے مختلف ہے۔

تخلیقی انداز فکر:

بچوں کا ایک چھوٹا گروپ اپنے قد کے برابر کا ایک مینار بنانے کی کئی کوششیں کرتا ہے۔ سعی و خطا کے ذریعہ وہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹاور کا نچلا حصہ زیادہ چوڑا بنائیں گے تو وہ اسے زیادہ اونچا بنا سکتے ہیں۔ وہ تیار پروڈکٹ کی ایک تصویر بناتے ہیں اپنے حل کو ظاہر کرنے کے لئے وہ تصویروں پر لیبل لگاتے ہیں۔

مشاہدہ کرنا اور سیکھنا:

دوبارہ کارآمد بنائی گئی ردی کی چیزوں سے چڑیوں کے فیڈر بنانے کے بعد بچے انہیں اپنی جماعت کی کھڑکی کے باہر درخت پر رکھتے ہیں۔ وہ ہر فیڈر کے گرد ہونے والی سرگرمی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ استاد اور اوائل بچپن کے معلمین کی مدد سے، اور ان کے اپنے مشاہدے پر مبنی، بچوں میں سے کچھ اپنے فیڈرس میں کچھ ترمیم کرتے ہیں اور واپس باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ تبدیلیوں کا اثر چڑیا کی سرگرمی پر دیکھا جا سکے۔

اسکول کے پہلے اور بعد میں میرا بچہ کیا سیکھے گا اور کون سے کام انجام دے گا؟


اسکول کے سال کے دوران، کچھ اسکول اسکول کے پہلے اور بعد مربوط پروگرام پیش کرتے ہیں بشرطیکہ والدین کی کافی تعداد اس میں دلچسپی لیتی ہو۔ جو کچھ باقاعدہ اسکول کے اوقات کے دوران ہوتا ہے ان کی کمی کو یہ پروگرام پورا کرتا ہے۔ آپ کا بچہ پُرسکون وقت مطالعہ، جمنائزم میں یا باہر ہونے والی سرگرمیوں، نیز اپنے کلاس روم میں کھیل کے خالی وقت میں شرکت کرے گا۔

والدین کے بے حد اصرار اور بورڈ کے پاس گنجائش موجود ہونے کی صورت میں، بورڈز کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ سال کے دیگر اوقات میں چار اور پانچ سالہ بچوں کے لئے پروگرامز مہیا کریں، جیسے پیشہ ورانہ ترقی کے دن، اسکول کے وقفے اور تعطیلات۔ اس کے علاوہ وہ چھ سے 12 سال کے بچوں کے لئے بھی پروگرام منعقد کروا سکیں گے۔

پروگرامز اختیاری ہوتے ہیں اور اسکول بورڈ کی جانب سے مقررہ معقول نرخوں کے عوض ان کی پیشکش کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے مقامی پرنسپل یا بورڈ سے رابطہ کریں۔ کچھ خاندانوں کے لئے بلدیہ کے ذریعہ، مالی ضرورت پر مبنی، مراعات دستیاب ہوں گی۔

اسکولوں کو کیسے منتخب کیا گیا تھا؟

- اسکول بورڈز نے دیگر مقامی بورڈز اور بلدیات کے ساتھ مل کر کام کیا تھا تاکہ ان اسکولوں کی تجویز پیش کر سکے جو ہر سال کل وقتی کنڈرگارٹن کی پیشکش کرنے کے لئے آمادہ ہوں گے۔
- عملی جامہ پہنانے کے پہلے مرحلے کے لئے، اسکول بورڈز کو ایسے اسکولوں کی تجویز پیش کرنے کے لئے کہا گیا تھا جن کے یہاں پروگرام کے لئے جگہ موجود تھی۔



میں اس میں کیسے شامل ہو سکتا/سکتی ہوں؟

- آپ کے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کی تعلیم کے ہر مرحلہ پر آپ کی شمولیت اہم ہے۔ یہاں کچھ آسان طریقے دیئے جا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچے کی کل وقتی کنڈرگارٹن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں:
- استاد اور اوائل بچپن کے معلم سے گفتگو کریں اور ان سے معلوم کریں کہ آپ روزانہ گھر پر اپنے بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؛ مثال کے طور پر، اپنے بچے کو پڑھ کر سنانا، ان کے ساتھ کھیلنا، اور سیکھنے کی دیگر سرگرمیوں کا لطف اٹھانا
- یہ پوچھ کر کہ آپ کے بچے نے مراکز سرگرمی پر آج کیا کیا تھا اپنے بچے کی تعلیم میں دلچسپی لیں اور اسکول اور تعلیم کو فیملی بات چیت کا ایک لازمی حصہ بنا لیں
- معلوماتی میٹنگوں اور والدین اور خاندانوں کے لئے منعقدہ دیگر تقریبات میں شریک ہوں
- اگر آپ کے پاس سوالات ہوں یا اپنے بچے کے اسکول کے تجربہ کے بارے میں تشویشات ہوں تو اپنے بچے کے استاد اور اوائل بچپن کے معلم سے بات کریں۔

اونٹاریو نے کل وقتی کنڈرگارٹن کو متعارف کیوں کرایا ہے؟

آج کی پیچیدہ دنیا میں، ہمارے بچوں کے لئے تعلیم پہلے سے زیادہ اہم بن گئی ہے۔ کل وقتی کنڈرگارٹن آپ کے بچے کو اسکول میں اور اس کی زندگی میں ایک مضبوط تر شروعات دینے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور بچوں کی نشونما کو سہارا دینے، مضبوط تر اسکولی نظام کی تعمیر کرنے اور طویل مدتی معاشی مقابلے میں اونٹاریو کو فائدہ پہنچانے کے لئے چار اور پانچ سال کے بچوں کے لئے کل وقتی کنڈرگارٹن اونٹاریو کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔

کیا آپ کے پاس مزید سوالات ہیں؟

اپنے اسکول میں کل وقتی کنڈرگارٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اپنے اسکول کے پرنسپل سے پوچھیں۔
انگریزی میں کل وقتی کنڈرگارٹن اسکولوں کی فہرست دیکھنے کے لئے www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp کو ملاحظہ کریں۔

www.ontario.ca/kindergarten پر انگریزی میں اور فرانسیسی میں www.ontario.ca/maternellejeurdindenfants پر کل وقتی کنڈرگارٹن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں

انگریزی اور فرانسیسی میں معلومات کے لئے اونٹاریو میں **1-800-387-5514** پر ٹول فری کال کریں اور اونٹاریو کے باہر سے **(416) 325-2929** پر کال کریں۔

